

## نوٹس: [انفرادی برقی گاڑی (EV) کے لیے درخواست کی ميعاد 15 مارچ سے شروع ہوگی]

David Do

چینر/صدر

tlccommissioner@tlc.nyc.gov

Jason Kersten

معاملات عامہ

press@tlc.nyc.gov

33 Beaver Street

22nd Floor

New York, NY 10004

[15 مارچ، 2023 سے، برقی گاڑیوں (EVs) کے لیے 600 نئے فار ہائر گاڑی (FHV) کے لائسنسز دستیاب ہوں گے۔ یہ لائسنسز ایسے فعال ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن (TLC) ڈرائیورز تک محدود ہوں گے جو فی الحال فعال FHV گاڑی کا لائسنس نہ رکھتے ہوں۔ یہ ناقابل منتقلی ہوں گے اور انہیں پہلے آنیے پہلے پائے کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا۔ ایک ڈرائیور کو صرف ایک ہی لائسنس دیا جائے گا۔

EV 600 لائسنسز میں سے ایک کی درخواست دینے کے لیے، براہ کرم اظہار دلچسپی کا فارم پُر کر کے جمع کروائیں جو کہ درج ذیل لنک پر TLC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا:

<https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-an-electric-for-hire-vehicle-license.page>.

براہ کرم یہ یقینی بنانے کے لیے درج ذیل اہلیتی چیک لسٹ کا جائزہ لیں کہ آپ EV 600 لائسنس کے لیے اظہار دلچسپی کا فارم جمع کروانے کے درکار لوازمات کی تکمیل کر لیں:

- آپ کے پاس ایک فعال TLC ڈرائیور لائسنس لازماً ہونا چاہیے
- آپ کو ایک فعال فار ہائر گاڑی کے لائسنس کا حامل نہیں ہونا چاہیے
- آپ کے نام پر ایک مستند سوشل سیکیورٹی نمبر (SSN)
- ایک مستند ای میل ایڈریس (اس ای میل کو آپ کے ساتھ درخواست کے پورے عمل کے دوران ابلاغ کے لیے استعمال کیا جائے گا)۔

فارم جمع کروانے جانے کے بعد، TLC اس کا جائزہ لے گا اور اہل ڈرائیورز کو ایک منفرد تصدیقی کوڈ اور درخواست مکمل کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ ایک ای میل وصول ہوگی۔ ڈرائیور کو درخواست کے عمل کے حوالے سے اہلیتی ای میل وصول ہونے کے بعد، ڈرائیورز EV خرید سکتے ہیں۔ غیر اہل ڈرائیورز کو ای میل کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا کہ وہ اہل نہیں ہیں۔

EV خریدنے اور درخواست کا عمل شروع کرنے کے لیے اہل ڈرائیورز کے پاس 120 دن ہوں گے۔ اس عمل کا آغاز TLC کی لائسنس یافتہ بیس کے ساتھ اہل ڈرائیور کے الحاق سے ہوتا ہے اور گاڑی کی لائسنسنگ کا عمل شروع کرنے کے لیے بیس ایک درخواست (بیس کا تصدیق نامہ) TLC کو جمع کروائے گی۔

TLC کو توقع ہے کہ ہر ایک (بشمول ڈرائیورز) کے لیے 400 لائسنسز کا اظہار دلچسپی کا فارم 29 مارچ 2023 کو پہلے آنیے پہلے پائے کی بنیاد پر دستیاب ہوگا۔ ان EV 400 لائسنسز پر مزید معلومات ہر ایک کے لیے جلد دستیاب ہوں گی۔

تاثرات، سوالات، تجاویز tlccommissioner@tlc.nyc.gov پر ای میل کریں